



سوال

(15) ان کی طرف سے صدقہ کر دیجئے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

چند سال پہلے میں نے لپٹنے کچھ ساتھیوں سے ایک سو ریال لئے تھے بعد ازاں میں کسی اور جگہ چلا گیا اور ان ساتھیوں کو بھول گیا وہ بھی مجھے بھول گئے، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ میں اس رقم کے بارے میں کیا کروں جو میرے کندھوں پر بوجھ ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر امر واقع اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے نام بھول گئے ہیں جن سے آپ نے ایک سو ریال لئے تھے تو اب آپ کے لئے مشروع یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے یہ سو ریال صدقہ کر دیں اور جب کبھی وہ آپ کو یاد آجائیں یا کہیں مل جائیں تو ان کا حق انہیں دے دیں الا یہ کہ وہ اس صدقہ کو تسلیم کر لیں جو آپ نے ان کی طرف سے کیا ہے تو اس سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے نیز آپ کو اور انہیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 3 ص 30

محدث فتویٰ